



## سوال

مفرد کے لئے نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہونا جائز ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی اثناء میں ایک جماعت مسجد میں داخل ہوئی اور اس نے نماز باجماعت شروع کر دی تو کیا یہ شخص اپنی نماز کو توڑ دے یا نفل کی نیت کر لے تاکہ ان کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کر سکے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

افضل یہ ہے کہ اسے نفل نماز میں بدل دے اور پھر باجماعت نماز ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائے تاکہ نماز باجماعت کا اجر و ثواب حاصل کر سکے اور اگر نماز کو توڑ کر باجماعت ادا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس نے نمازی سے متعلق ایک شرعی مصلحت کی وجہ سے نماز کو توڑا ہے۔

حدا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 498

محدث فتویٰ